

یہودیوں کی مختلف تنظیموں کے تعاون سے عمل میں آیا تھا اور وہی لوگ اس کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اس مرکز کے زیر انتظام کافر لنوں میں امریکیوں کے علاوہ مختلف بین الاقوامی تنظیموں اور افراد نے مجرمی دلچسپی لی ہے۔

مدئُکورہ ادارے اور گروپ امریکہ کے ان بہت سے گروپوں میں سے چند، ہیں جو امریکہ میں غیر مسلمانوں سے ڈائیلاگ اور رابطہ بڑھانے اور ان کے لیے معلوماتی پروگراموں کا انتظام کرتے ہیں، تاکہ امریکی مسلمانوں کو درجہ بیش اہم سائل کے طبقے میں ان پر مسلمانوں کا لفظی لکھرا و خیج کیا جائے اور ان کا تعاون حاصل کیا جائے۔

ان میں کئی مسلم تنظیموں کے پاس کمپیوٹر ہوم پیج (Computer Home Page) کی سوت موجود ہے۔ جو لوگ اسلام میں دلچسپی رکھتے ہیں یا مختلف شعائر اسلام کے بارے میں جانتا ہا ہے، ہیں، وہ ورلد وائیڈوب (World Wid Eweb) یا اسلام کے بارے میں انٹرنیٹ میلنگ لٹ سے رابطہ قائم کر کے مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

مختلف مسلم تنظیموں اہم عرب اور اسلامی تواریخ اور تعلیمات اور ہلتاقی تقریبات کے بارے میں اخبارات، رسائل اور دنیی درسی کتابیں خالق کرتی ہیں۔ خواہش مند افراد ان تنظیموں سے دنی کتابیں اور قرآن کریم کے لئے مگلوسا کتے ہیں۔

متفرقہ

بائبل کے ترجمے ۲۰۶۲ زبانوں میں دستیاب ہیں۔

ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں بولی جانے والی چھوٹی بڑی زبانوں کی تعداد چھ ہزار کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے ۲۰۶۲ میں بائبل کے مکمل یا جزوی ترجمے موجود ہیں۔ ۱۹۹۳ کے آخر میں "یونائیٹڈ بائبل سوسائٹی" کی جانب سے چاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق عمد نامہ جدید ۹۹% کے زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور مکمل بائبل ۳۲۷ زبانوں میں دستیاب ہے۔ ۱۹۹۶ میں عمد نامہ صحتیں یا عمد نامہ جدید کی کم از کم ایک "تکال" کا ترجمہ ہوا ہے۔

بائبل کے ترجمے کے بارے میں برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی (برطانیہ) اور امریکن بائبل سوسائٹی (نیویارک، ریاست ہائے متحدة امریکہ) معلوماتی یک جا کرتی ہیں۔ سمجھی متنازعوں اور مسترجعوں کا جوش و جذبہ دیکھتے ہوئے کہما جا سکتا ہے کہ ۱۹۹۳ء کے بعد بھی اکاڈمیا مزید زبانوں میں جزوی ترجمے ہوئے ہوں گے، یا پسلے سے موجود جزوی ترجمے نے مکمل بائبل کا احاطہ کر لیا ہو گا۔